



میری کسی بات کو نہ لکھو جس نہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی اور بات لکھی ہے وہ اسے مٹا دو، البتہ میری باتیں روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو شخص جان بوجھ کر میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا: میری کسی بات کو نہ لکھو جس نہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی اور بات لکھی ہے وہ اسے مٹا دو، البتہ میری باتیں روایت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو شخص میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا - امام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں انہوں نے ”جان بوجھ کر“ کے الفاظ بھی کہے تھے۔ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے

[صحیح] [اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے]

نبی ﷺ (شروع میں) اپنے صحابہ کو اپنی کوئی بھی بات لکھنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ جس نے میری کسی بات کو لکھا ہے وہ اسے مٹا دو پھر آپ ﷺ نے انہیں اپنی باتوں کو آگے بیان کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی کہ ایسا کرنے میں ان پر کوئی گناہ نہیں بشرطیکہ وہ آپ ﷺ سے جس بات کو بھی نقل کریں اس میں سچائی کو پیش نظر رکھیں آپ ﷺ نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ جو شخص بھی آپ ﷺ کی طرف جان بوجھ کر کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا اس کی جزا جہنم کی آگ ہوگی حدیث کو لکھنے کی ممانعت منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ آپ ﷺ نے اس سے شروع شروع میں منع فرمایا تھا کیونکہ احادیث بہت زیادہ ہو گئیں اور ہو سکتا تھا کہ حافظ کچھ باتوں کو محفوظ نہ رکھ سکے چنانچہ آپ ﷺ نے لکھنے کی اجازت دے دی آپ ﷺ نے اپنے خطبہ (حجۃ الوداع) میں فرمایا کہ لے ”ابو شاہ کو لکھ کر دو“ آپ ﷺ نے ایسا اس وقت فرمایا جب ابو شاہ رضی اللہ عنہ نے آپ ﷺ سے (خطبہ میں بیان کردہ احکام کو) لکھ کر دینے کی درخواست کی تھی آپ ﷺ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ﷺ نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو لکھنے کی اجازت دی رسول اللہ ﷺ نے اپنی امت کو تبلیغ کا حکم دیا ہے جب لکھا جائے گا تو اس سے علم ضائع ہو جائے گا کہ جاتا ہے کہ اس ممانعت کا تعلق محض اس صورت کے ساتھ خاص ہے جب حدیث کو قرآن کے ساتھ ایک ہی صحیفہ میں لکھا جائے تا کہ اس کی قرآن کے ساتھ آمیزش نہ ہو جائے اور یوں قاری اشتباہ میں پڑ جائے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ممانعت صرف نزول قرآن کے وقت کے ساتھ خاص تھی اس اندیشہ کے تحت کہ قرآن کا کسی اور شے کے ساتھ التباس نہ ہو جائے بعد ازاں رسول اللہ ﷺ نے اس کی اجازت دے دی کہ احتمال یعنی اس ممانعت کا منسوخ ہونا ہی زیادہ راجح ہے



النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

